

Q. 7. Translate the following into English by keeping in view figurative/idiomatic expressions.

پاکستان افغانستان میں امن کے لیے نئے فریم ورک کے تحت افغانستان میں امن، پاکستان کے لیے اچھی اہم ہے۔ جو نئی خاطر میں دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان پر وہی برہنہ ساری ملک ہونے کے ساتھ جو نئی خاطر، ساری باتوں میں جسے ہونے ہے۔ یہ رشتے ٹوٹ ہی گئے ہیں اور دونوں کا تعلق ایک دوسرے سے ہے اور دونوں ملک گہرے بھی نہیں تھے۔ پاکستان کا موقف روز اول سے یہی رہا ہے کہ افغان مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے اس موقف کی حمایت بھی کرتا ہے اس ضمن میں بھی نے کہا ہے کہ افغان تنازعہ افغان قبائل میں ہونے والے امن مذاکرات سے ہی حل ممکن ہے۔ پاکستان اور بھی شریک مذاکرات واری کے لیے افغان تنازعہ کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔

The peace in Afghanistan

is important for the peace in Pakistan. Due to Islamic neighbour hood of Pakistan and Afghanistan are being integrated on the basis such as historical, cultural and brotherhood in the ~~not past~~ historical past. Their relationship are the example of brotherhood, they cannot separate and live without them. From the first day, Pakistani motive is the political stability of Afghan. China support Pakistan at this motive. According to China, peace deal is the solution in the presence of Afghan. The strategic participation of Pakistan and Afghanistan will play a role to solve the problem of Afghan conflict through dialogue.